

**موسم گرما کے بارے میں فراہم کنندہ اور پروگرام کی بابت اکثر پوچھے گئے سوالات (FAQ)**  
**آخری بار تجدید شدہ 23 جون 2020**

گورنر Cuomo نے اعلان کیا ہے کہ موسم گرما کے یومیہ کیمپ 29 جون 2020 کو دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ موسم گرما کے یومیہ کیمپس مراعات یافتہ نگہداشت طفل فراہم کرنے کے اہل ہیں اگر انہیں (1) NYC کے ضابطہ صحت (NYC Health Code) کے آرٹیکل 48 کے تحت NYC کے محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت (NYC Department of Health and Mental Health, NYC DoHMH) سے اجازت ملی ہو اور (2) وہ WHEDco کے پاس قانونی طور پر مستثنیٰ اجتماعی پروگرام کے بطور اندراج کروائیں۔

- وہ فراہم کنندگان اور پروگرامز جو مراعات یافتہ نگہداشت صحت فراہم کر سکتے ہیں:
- WHEDco کے پاس اندراج یافتہ قانونی طور پر مستثنیٰ (غیر رسمی) نگہداشت طفل فراہم کنندگان
  - OCFS کی جانب سے رجسٹرڈ فیملی اور اجتماعی کنبہ جاتی نگہداشت طفل فراہم کنندگان
  - OCFS کی جانب سے رجسٹرڈ اسکول جانے کی عمر کے لیے نگہداشت طفل پروگرامز (اسکول پر مبنی نہیں)
  - DOHMH سے منظور شدہ آرٹیکل 47 اور آرٹیکل 43 کے پروگرام جو لازمی کارکنان کے لیے نگہداشت طفل فراہم کرنے کے لیے مجاز ہوں
  - DOE سے منظور شدہ آرٹیکل 47 اور آرٹیکل 43 کے پروگرام جو لازمی کارکنان کے لیے نگہداشت طفل فراہم کرنے کے لیے مجاز ہوں

- وہ پروگرام جو مراعات یافتہ نگہداشت طفل کے لیے بند رہتے ہیں:
- NYC کے ضابطہ صحت کے آرٹیکل 47 کے تحت NYC DOHMH سے لائسنس یافتہ نگہداشت طفل پروگرامز
  - NYC کے ضابطہ صحت کے آرٹیکل 43 کے تحت NYC DOHMH سے اجازت یافتہ اور WHEDco کے پاس اندراج یافتہ قانونی طور پر مستثنیٰ اجتماعی نگہداشت طفل پروگرامز
  - WHEDco کے پاس اندراج یافتہ اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے لیے اسکول پر مبنی قانونی طور پر مستثنیٰ اجتماعی پروگرامز
  - اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے لیے OCFS سے لائسنس یافتہ اسکول پر مبنی نگہداشت طفل

میں COVID-19 کی صحت عامہ کی ہنگامی حالت کے دوران موسم گرما کا کیمپ چلانے کے طریقے کی بابت مزید معلومات کہاں سے حاصل کروں؟  
 نیو یارک اسٹیٹ نے

[https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Childcare\\_and\\_Summer\\_Camps\\_Summary.pdf](https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Childcare_and_Summer_Camps_Summary.pdf) پر آن لائن رہنمائی فراہم کی ہے۔

اگر میرا پروگرام صحت بورڈ کے کلوزر آرڈر (Closure Order) کے ذریعے بند رہتا ہے تو کیا میں موسم گرما کا کیمپ فراہم کرنے کے لیے اپنا لائسنس یا پرمٹ استعمال کر سکتا ہوں؟  
 نہیں۔ صرف NYC کے ضابطہ صحت کے آرٹیکل 48 کے تحت NYC DOHMH سے اجازت یافتہ پروگرامز ہی موسم گرما کے کیمپ فراہم کر سکتے ہیں۔

پروگرام دوبارہ کب کھلیں گے؟  
 صحت بورڈ کا کلوزر آرڈر تب تک مؤثر رہتا ہے جب تک نیو یارک سٹی کا صحت بورڈ اسے منسوخ نہیں کر دیتا ہے۔



**اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے لیے اسکول پر مبنی پروگرام کیوں بند ہیں؟**  
اسکول پر مبنی اعمال اس وقت انجام نہیں پا سکتے ہیں اور اس وجہ سے اسکول پر مبنی نگہداشت طفل کے تمام پروگراموں کو نگہداشت طفل کی رعایتی ادائیگی کے لیے بند مانا جاتا ہے۔ اس میں اسکول جانے کی عمر کے بچوں کے لیے اسکول پر مبنی نگہداشت طفل کے پروگرام شامل ہیں۔ اسکول جانے کی عمر کے جو پروگرام اسکولوں میں واقع نہیں ہیں وہ مراعات یافتہ نگہداشت طفل کے لیے ادائیگی موصول کرتے رہ سکتے ہیں۔

**اگر میرا پروگرام بند رہتا ہے تو کیا میں نگہداشت طفل کی مراعات یافتہ ادائیگی موصول کرتا رہوں گا؟**  
16 مارچ 2020 سے، ACS نے بامعاوضہ پروگرام کی بندی کے دنوں کی کل تعداد کی حد تک ریاستی تخفیف سے ملی اجازت کے مطابق پروگرام کی بندی کے لیے ادائیگی فراہم کی ہے۔ OCFS سے 13 جولائی 2020 تک ہماری موجودہ تخفیف کو منظوری ملی ہے۔